

عم 30

الْقَوْلُ الْكَلِمَةُ

لفظی اور با محاورہ ترجمہ

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

نگہت ہاشمی

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

## تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس  
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [library@mohaddis.com](http://library@mohaddis.com)

۲ رکوعاها

۷۸ سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ ۸۰

آیاتها ۲۰

سُورہ نبأ کی ہے اس میں چالیس آیات اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۲

کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں خبر کے بارے میں بڑی  
کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ (1) بڑی خبر کے بارے میں۔ (2)

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۴ ثُمَّ

وہ جس میں وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے پھر  
وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ (3) ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے۔ (4) پھر

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۵ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۶

ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش  
ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے۔ (5) کیا ہم نے زمین کو فرش۔ (6)

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۷ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۸ وَجَعَلْنَا

اور پہاڑوں کو میخیں اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا اور بنایا ہم نے  
اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ (7) اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ (8) اور ہم نے

نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۹ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۱۰ وَجَعَلْنَا

تمہاری نیند کو باعث آرام اور بنایا ہم نے رات کو لباس (پروہ پوش) اور بنایا ہم نے  
تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔ (9) اور ہم نے رات کو پروہ پوش بنایا۔ (10) اور ہم نے

النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱ وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝۱۲

دن کو روزی کمانے کا وقت اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے سات مضبوط

دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ (11) اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے۔ (12)

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝۱۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ

اور بنایا ہم نے ایک روشن چراغ بہت گرم اور اتارا ہم نے پانی بھرے بادلوں سے

اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنا دیا۔ (13) اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے

مَاءً نَّجَّاجًا ۝۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝۱۵

پانی کثرت سے برسنے والا تاکہ ہم اُگائیں اس کے ساتھ اناج اور پودے

کثرت سے برسنے والا پانی اُتارا۔ (14) تاکہ ہم اُس کے ذریعے سے اناج اور پودے اُگائیں۔ (15)

وَجِئْتِ الْفَأَاقُ ۝۱۶ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷

اور باغات گھنے یقیناً دن فیصلہ کا وہ ہے ایک مقررہ وقت

اور گھنے باغات۔ (16) یقیناً فیصلہ کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ (17)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝۱۸ وَفُتِحَتْ

جس دن پھونک ماری جائے گی صور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج اور کھول دیا جائے گا

جس دن صور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ (18) اور آسمان کھول دیا جائے گا

السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝۱۹ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ

آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے اور چلائے جائیں گے پہاڑ

تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ (19) اور پہاڑ چلائے جائیں گے

فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۲۱

تو وہ ہو جائیں گے سراب یقیناً جہنم (ہمیشہ سے) ہے ایک گھات کی جگہ

تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ (20) یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ (21)

لِّطَاغِينَ مَابًا ۝ لَّبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوقُونَ

سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے رہنے والے ہیں اس میں عرصہ دراز تک نہ وہ چکھیں گے

سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ (22) جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ (23)

فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ۝

اس میں کسی ٹھنڈک کو اور نہ پینے کی چیز کو مگر کھولتا ہوا پانی اور (بہتی ہوئی) پیپ

اُس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو۔ (24) مگر کھولتا ہوا پانی

جَزَاءً وَفَاتًا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

بدلہ ہے پورا پورا یقیناً وہ تھے نہیں امید رکھتے کسی حساب کی

اور بہتی پیپ۔ (25) جو پورا پورا بدلہ ہے۔ (26) یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو بالکل جھٹلانا اور ہر چیز کو اسے شمار کر رکھا ہے ہم نے

رکھتے تھے۔ (27) اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلادینا (28) اور ہم نے ہر چیز کو

كِتَابًا ۝ فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

ایک کتاب میں پس تم چکھو کہ ہرگز نہیں ہم اضافہ کریں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے

ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ (29) پس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہ کریں گے۔ (30)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝ وَكَوَاعِبَ

یقیناً ڈرجانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے باغات اور انگور اور نوزخیں لڑکیاں

یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرجانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ (31) باغات اور انگور ہیں۔ (32) اور نوزخ

أَثْرَابًا ۝ وَكَاسًا وَهَاتَا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ اور جام چھلکتے ہوئے نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو

ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ (33) اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ (34) اُس میں نہ وہ کوئی لغو سنیں گے

وَلَا كِذْبًا ۝۲۵ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝۲۶

اور نہ کوئی جھوٹ یہ بدلہ ہے تیرے رب کی جناب سے انعام ہے کافی

اور نہ کوئی جھوٹ۔ (35) تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ (36)

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو درمیان ہے ان کے وسیع رحمت والا

جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے۔ وسیع رحمت والا ہے،

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝۲۷ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ

قدرت نہ ہوگی کسی کو اس سے بات کرنے کی جس دن کھڑے ہوں گے جبریل

کسی کو اُس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ (37) جس دن جبریل

وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝۲۸ أَلَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ

اور فرشتے صف بستہ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو اجازت دے

اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو

لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝۲۹ ذَلِكَ الْيَوْمُ

اس کے لیے رحمن اور کہے گا وہ درست بات یہ ہے دن

رحمن اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ (38) یہ دن

الْحَقُّ ۝۳۰ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا ۝۳۱

برحق توجو چاہتا ہے بنالے پاس اپنے رب کے لوٹنے کی جگہ

برحق ہے تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنالے۔ (39)

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۝۳۲ يَوْمَ

یقیناً ہم نے خبردار کر دیا تمہیں اس عذاب سے جو قریب ہی ہے جس دن

یقیناً ہم نے تمہیں اُس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، جس دن

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّامَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ

دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے اور کہے گا

انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا،

الْكَفْرُ يَلِيَّتِي كُنْتُ تُرْبَاعًا

کافر اے کاش کہ میں ہوتا مٹی

اور کافر کہے گا: ”اے کاش میں مٹی ہوتا!“ (40)

مکوعاتها ۲

سُورَةُ الثُّغُوتِ مَكِّيَّةٌ ۸۱

آیاتها ۳۶

سُورَةُ نَزَعَاتٍ كَثِيرَةٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ آيَةً وَأَرْبَعُونَ حُرُوفًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالثُّغُوتِ غَرَقًا ۱ وَالشُّطِّتِ نَشْطًا ۱

قسم ہے سختی سے کھینچنے والوں کی! ڈوب کر اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا

ڈوب کر سختی سے (جان) کھینچنے والے (فرشتوں) کی قسم! (1) اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں! آسانی سے کھولنا۔ (2)

وَالسَّبِيحِ سَبْحًا ۲ فَالسَّبِيحِ سَبْحًا ۳

اور ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا پھر ان کی! جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھنا

اور ان کی جو تیرنے والے ہیں! تیزی سے تیرنا۔ (3) پھر جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں! آگے بڑھنا۔ (4)

فَالْمَدْبِرَاتِ أُمَّرًا ۵ تَرَجُّفُ الرَّاجِفَةِ ۶

پھر ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں کام کی جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی

پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں! (5) جس دن ہلا ڈالے گی، سخت ہلا ڈالنے والی۔ (6)

تَتَّبِعَهَا الرَّادِفَةُ ۞ قَلْبُ يَوْمِي ۞ وَاجِفَةٌ ۞

پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے  
اُس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی۔ (7) کچھ دل اُس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ (8)

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ

نگاہیں ان کی جھکنے والی ہوں گی وہ کہتے ہیں کیا بلاشبہ ہم واقعی لوٹائے جانے والے ہیں  
اُن کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی۔ (9) وہ کہتے ہیں: ”کیا بلاشبہ ہم واقعی پہلی حالت میں

فِي الْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً ۞ قَالُوا

پہلی حالت میں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ انہوں نے کہا  
واپس لوٹائے جانے والے ہیں؟ (10) کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟“ (11) انہوں نے کہا:

تِلْكَ إِذَا كَرَّ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

یہ تب واپسی بڑے خسارے والی ہے چنانچہ یقیناً وہ ڈانٹ ہوگی  
”تب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے۔“ (12) چنانچہ وہ تو بس

وَاحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ أَتَكَ

ایک ہی پھر اچانک وہ (ہوں گے) ایک کھلے میدان میں کیا آئی ہے تمہارے پاس  
ایک ڈانٹ ہوگی۔ (13) پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ (14) کیا تمہارے پاس

حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

بات موسیٰ کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی میں مقدس  
موسیٰ کی بات آئی ہے؟ (15) جب اُس کے رب نے اُسے مقدس وادی

طَوًى ۞ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۞

طوی کی جاؤ طرف فرعون کی یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے  
طوی میں پکارا۔ (16) ”فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ (17)



فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُكِّي ۱۸

پس کہہ دو کیا تیرے لیے (رغبت) ہے یہ کہ تم پاکیزگی اختیار کرو

پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو؟ (18)

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۱۹ فَأَمْرَهُ

اور میں تیری راہنمائی کروں طرف تیرے رب کی کہ تم ڈرنے لگ جاؤ چنانچہ اس نے دکھائی اس کو اور میں تیری تمہارے رب کی طرف تمہاری راہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ؟ (19) چنانچہ موٹی نے اُس کو

الآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۲۱ ثُمَّ أَدْبَرَ

نشانی بہت بڑی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر وہ واپس پلٹا

بڑی نشانی دکھائی۔ (20) تو اُس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ (21) پھر واپس پلٹا کہ بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ (22)

يَسْعَىٰ ۲۲ فَحَسَرَ فَنَادَىٰ ۲۳ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ

بھاگ دوڑ کرتا تھا پھر اس نے جمع کیا پس پکارا پس اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا

پھر اس نے جمع کیا، پس پکارا۔ (23) پس کہا: ”میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔“ (24)

الْأَعْلَىٰ ۲۴ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۲۵

سب سے بلند تو پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں آخرت کے اور دنیا کے

تو اللہ تعالیٰ نے اُسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ (25)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۲۶

بلاشبہ اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے

بلاشبہ اس میں یقیناً ہر اُس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ (26)

عَآئِنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۲۷ بَنَاهَا ۲۸ رَافِعٌ

کیا تم زیادہ مشکل ہو تخلیق میں یا آسمان اس نے بنایا اس کو اس نے بلند کی

کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اُس کو بنایا۔ (27)

سَنُكَّهَا ۱۸) فَسَوَّيْنَاهَا ۱۸) وَأَعْطَشَ ۱۸) لَيْثَهَا ۱۸) وَأَخْرَجَ ۱۸)

چھت اس کی پھر ٹھیک ٹھاک ہموار بنا دیا سے اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو اور اس نے نکالا اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار بنا دیا۔ (28) اور اس کی رات کو تاریک کیا

صُحْبَهَا ۱۹) وَالْأَرْضَ ۱۹) بَعْدَ ذَلِكَ ۱۹) دَحْبَهَا ۱۹) أَخْرَجَ ۱۹)

اس کے دن کی روشنی کو اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھایا اس نے نکالا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا۔ (29) اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ (30)

مِنْهَا ۲۰) مَاءَهَا ۲۰) وَمَرْعُهَا ۲۰) وَالْجِبَالَ ۲۰) أَرْسَهَا ۲۰)

اس سے پانی اس کا اور چارہ اس کا اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا انہیں اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ (31) اور پہاڑ، اس نے انہیں گاڑ دیا۔ (32)

مَتَاعًا ۲۱) لَكُمْ ۲۱) وَإِنْعَامَكُمْ ۲۱) فَإِذَا جَاءتِ ۲۱)

سامان تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے پھر جب آجائے گی جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہیں۔ (33)

الطَّامَةِ ۲۲) الْكُبْرَى ۲۲) يَوْمَ ۲۲) يَتَذَكَّرُ ۲۲) الْإِنْسَانُ ۲۲)

ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی (مصیبت) جس دن یاد کرے گا انسان پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آجائے گی۔ (34) جس دن

مَا سَعَى ۲۳) وَبُرِّزَتِ ۲۳) الْجَحِيمُ ۲۳) لِسَنِّ ۲۳) يَرَامِي ۲۳)

جو اس نے کوشش کی اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی۔ (35) اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ (36)

فَأَمَّا ۲۴) مَنْ ۲۴) طَغَىٰ ۲۴) وَآثَرَ ۲۴) الْحَيَاةَ ۲۴) الدُّنْيَا ۲۴)

لیکن جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی زندگی کو دنیا کی مگر جس نے سرکشی کی۔ (37) اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ (38)

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿۳۹﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

تو یقیناً جہنم وہی اس کا ٹھکانہ ہے اور لیکن جو شخص ڈر گیا

تو یقیناً جہنم اُس کا ٹھکانہ ہوگی۔ (39) لیکن جو شخص اپنے رب کے

مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿۴۰﴾

کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور جس نے روکا نفس کو بری خواہشات سے

سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا۔ (40)

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿۴۱﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

تو یقیناً جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہوگی وہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے قیامت کے بارے میں

تو یقیناً جنت اُس کا ٹھکانہ ہوگی۔ (41) وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں

أَيَّانَ مَرْسَهَا ﴿۴۲﴾ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا ﴿۴۳﴾

کب ہوگا اس کا وقوع کیا تعلق آپ کو اس کے بتانے سے

کہ اُس کا وقوع کب ہوگا؟ (42) آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ (43)

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿۴۴﴾ إِنَّكَ أَنْتَ مُنْذِرٌ

پاس تیرے رب کے اس کی انتہا ہے یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں

تیرے رب کے پاس اُس (کے علم) کی انتہا ہے۔ (44) یقیناً

مَنْ يَخْشَاهَا ﴿۴۵﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

اس کو جو ڈرتا ہے اس سے گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے اسے

جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ (45) جس دن وہ اُسے دیکھ لیں گے

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْبَةً ﴿۴۶﴾

نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح اس کی

تو (سمجھیں گے) گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اُس کی ایک صبح۔ (46)



عَنْهُ تَكَلَّى ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں ہرگز نہیں یقیناً یہ ایک نصیحت ہے توجو

اُس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں؟ (10) ہرگز نہیں! یقیناً یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔ (11) توجو

شَاءَ ذِكْرًا ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

چاہے یاد رکھے اس کو ان صحیفوں میں جو قابل احترام ہیں بلند مرتبہ ہیں

چاہے اُس کو یاد رکھے۔ (12) ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہیں۔ (13) بلند مرتبہ ہیں،

مُطَهَّرًا ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پاکیزہ ہیں ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے جو معزز ہیں نیک ہیں

پاکیزہ ہیں۔ (14) ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ (15) جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ (16)

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرًا ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

مارہو انسان پر کس قدر ناشکر ہے وہ! کس چیز سے اُس نے پیدا کیا اس کو

اللہ کی مارہو انسان پر کس قدر وہ ناشکر ہے! (17) اللہ تعالیٰ نے اُسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ (18)

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ایک نطفے سے پیدا کیا اس کو پس اس نے تقدیر مقرر کی اس کی پھر راستہ

اُسے ایک نطفے سے پیدا کیا پس اُس کی تقدیر مقرر کی۔ (19) پھر

يَسَّرًا ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اس نے آسان کر دیا اس کے لیے پھر اس نے موت دی اسے پھر قبر میں رکھوایا اسے پھر جب

اس نے اُس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ (20) پھر اُسے موت دی، پھر اُسے قبر میں رکھوایا۔ (21) پھر

شَاءَ أَنْشُرَهُ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

وہ چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا اسے ہرگز نہیں! ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جس کا

جب وہ چاہے گا اُسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ (22) ہرگز نہیں! اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا

أَمْرًا ۳۲ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۳۱ أَنَا

اس نے حکم دیا تھا اسے تو ضرور دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کی یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ نے اُسے حکم دیا تھا۔ (23) تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے۔ (24) کہ یقیناً ہم نے

صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ

برسایا پانی خوب برسانا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو خوب پانی برسایا۔ (25) پھر ہم نے زمین کو

شَقَقْنَا ۳۲ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۲۶ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۳۱

اچھی طرح پھاڑنا پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور بنریاں اچھی طرح پھاڑا۔ (26) پھر ہم نے اُس میں اناج اگایا۔ (27) اور انگور اور بنریاں بھی۔ (28)

وَزَيْتُونًا ۳۳ وَنَخْلًا ۳۴ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۵ وَآبًا ۳۱

اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گھنے اور پھل اور چارہ بھی اور زیتون اور کھجوریں بھی۔ (29) اور گھنے باغات بھی۔ (30) اور پھل

مَتَاعًا ۳۲ لَكُمْ وَلَا نَعْمَكُمْ ۳۳ فَإِذَا جَاءَتْ

سامان زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پس جب آجائے گی اور چارہ بھی۔ (31) جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ (32) پس جب

الصَّاحَّةُ ۳۴ يَوْمَ يَفِرُّ الْبَرُّ مِنْ أَخِيهِ ۳۵ وَأُمُّهُ

کان بہرے کر دینے والی اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے کان بہرے کر دینے والی آجائے گی۔ (33) اُس دن آدمی اپنے بھائی سے۔ (34) اور اپنی ماں سے

وَأَبِيهِ ۳۵ وَصَاحِبَتِهِ ۳۶ وَبَنِيهِ ۳۷ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ

اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے ہر شخص کی ان میں سے اور اپنے باپ سے۔ (35) اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ (36) اُس دن اُن میں سے ہر شخص کی



وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۖ وَإِذَا الْعِشَامُ عُطِّلَتْ ۗ

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بے کار چھوڑ دی جائیں گی

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ (3) اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بے کار چھوڑ دی جائیں گی۔ (4)

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۗ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۗ

اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے

اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ (5) اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ (6)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۗ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ

اور جب روہیں ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے

اور جب روہیں (جسم سے) ملا دی جائیں گی۔ (7) اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے

سُئِلَتْ ۗ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۙ وَإِذَا الصُّحُفُ

سوال کیا جائے گا کس کے بدلے گناہ کے وہ قتل کی گئی اور جب اعمال نامے

سوال کیا جائے گا۔ (8) کہ کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی؟ (9) اور جب اعمال نامے

نُشِرَتْ ۗ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۗ وَإِذَا الْجَحِيمُ

پھیلانے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم

پھیلانے جائیں گے۔ (10) اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ (11) اور جب جہنم

سُعِرَتْ ۗ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۗ عَلِمَتْ نَفْسٌ

دھکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی جان لے گی ہر جان

دھکا دی جائے گی۔ (12) اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ (13) تو ہر جان، جان لے گی کہ

مَا أَحْضَرْتُ ۗ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۗ الْجَوَابِرُ

کیا وہ لے کر آئی ہے پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی چلتے رہنے والے

وہ کیا لے کر آئی ہے؟ (14) پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے (ستاروں) کی! (15) جو چلتے رہنے والے،



الْكُفْسِ ۱۷) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۱۶) وَالصُّبْحِ إِذَا

چھپ جانے والے اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے اور صبح کی جب  
چھپ جانے والے ہیں۔ (16) اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے! (17) اور صبح کی جب

تَنْفَسَ ۱۸) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۱۹) ذِي قُوَّةٍ

وہ سانس لیتی ہے بلاشبہ یہ یقیناً قول ہے ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا بڑی قوت والا ہے  
وہ سانس لیتی ہے! (18) بلاشبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ (19) جو قوت والا ہے،

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۲۰) مُطَاءً ثُمَّ أَمِينٍ ۲۱)

نزدیک عرش والے کے بلند مرتبہ اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں امانت دار ہے  
عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ (20) وہاں اُس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ (21)

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُونٍ ۲۲) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ

اور ہرگز نہیں ساتھی تمہارا کوئی دیوانہ اور بلاشبہ یقیناً اس (محمد) نے دیکھا اس کو کنارے پر  
اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ (22) اور بلاشبہ یقیناً اُس (محمد) نے اس (جبرئیل) کو

الْبُيُنِ ۲۳) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۲۴) وَمَا

روشن اور نہیں وہ غیب پر بخیل اور ہرگز نہیں  
(آسمان کے) روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ (23) اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ (24)

هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مَّرْجُومٍ ۲۵) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۲۶)

وہ قول کسی شیطان کا مردود کا پھر کدھر تم جا رہے ہو  
اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ (25) پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ (26)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۲۷) لَسِنٌ شَاءَ

نہیں وہ مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے اس کے لیے جو چاہے  
یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ (27) تم میں سے اُس کے لیے

مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے اور نہیں تم چاہتے مگر

جو چاہے کہ وہ سیدھا چلے۔ (28) اور تم نہیں چاہتے مگر

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سَبُّ الْعَالِيْنَ ۝

یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب

یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ (29)

رکوع ۱

۸۲ سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ ۸۲

ایاتھا ۱۹

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ ۸۲

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ ۸۲

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے

جب آسمان پھٹ جائے گا۔ (1) اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ (2)

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی

اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ (3) اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی۔ (4)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

جان جائے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا اے انسان

ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ (5) اے انسان!

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۶ الَّذِي خَلَقَكَ

کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھے اپنے رب کریم کے بارے میں وہ جس نے پیدا کیا تھے اپنے رب کریم کے بارے میں تھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ (6) جس نے تھے پیدا کیا۔

فَسَوِّدْكَ فَعَدَلَك ۝۷ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ

پھر درست بنایا تھے پھر برابر کیا تھے جس صورت میں جو اس نے چاہا پھر تھے درست بنایا، پھر تھے برابر کیا۔ (7) جس صورت میں اُس نے چاہا تھے جوڑ دیا۔ (8)

رَاكِبَكَ ۝۸ كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۹ وَإِنَّ

جوڑ دیا تھے ہرگز نہیں! بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو حالانکہ یقیناً ہرگز نہیں! بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ (9) حالانکہ یقیناً تم پر

عَلَيْكُمْ لِحَفِظِينَ ۝۱۰ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝۱۱ يَعْلَمُونَ مَا

تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ نگہبان مقرر ہیں۔ (10) معزز لکھنے والے۔ (11) وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ (12)

تَفْعَلُونَ ۝۱۲ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۱۳ وَإِنَّ الْفُجَّارَ

تم کرتے ہو یقیناً نیک لوگ بلاشبہ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً گناہ گار یقیناً نیک لوگ بلاشبہ نعمتوں میں ہوں گے۔ (13) اور یقیناً گناہ گار

لَفِي جَحِيمٍ ۝۱۴ يَصَلُّونَهَا ۝۱۵ يَوْمَ الدِّينِ ۝۱۶ وَمَا هُمْ

بلاشبہ دوزخ میں ہوں گے وہ داخل ہوں گے اس میں جزا کے دن اور ہرگز نہیں وہ بلاشبہ دوزخ میں ہوں گے۔ (14) جزا کے دن وہ اُس میں داخل ہوں گے۔ (15) اور وہ

عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۷ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝۱۸

اس سے غائب ہونے والے اور کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا کیا ہے جزا کا دن اُس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ (16) اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ (17)

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ (۱۸) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ

پھر کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا کیا ہے جزا کا دن جس دن اختیار نہ ہوگا

پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ (18) جس دن

نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ ۝ (۱۹)

کسی جان کو کسی جان کے لیے کسی چیز کا اور حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا

کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ (19)

ایاتھا ۳۶ ۸۳ سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ ۸۲ رُكُوْعًا ۱

سورہ مطففین مکی ہے اس میں ایک رکوع اور چھتیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ (۱) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا

بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں

ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ (1) وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں

عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ (۲) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ناپ کر دیتے ہیں انہیں یا تول کر دیتے ہیں انہیں

تو پورا پورا لیتے ہیں۔ (2) اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ (3)

يُخْسِرُونَ ۝ (۳) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ (۴)

تو کم دیتے ہیں کیا نہیں وہ یقین رکھتے وہ لوگ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں

کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ (4)

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

ایک بہت بڑے دن میں جس دن کھڑے ہوں گے لوگ جہانوں کے رب کے سامنے

ایک بہت بڑے دن میں۔ (5) جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (6)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا

ہرگز نہیں! یقیناً نامہ اعمال نافرمانوں کا ضرور دائمی سخت قید کے دفتر میں ہوگا اور کس چیز نے

ہرگز نہیں! یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجدت میں ہوگا۔ (7)

أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ

تجھے معلوم کروایا کیا ہے سجدت (دائمی سخت قید کا دفتر) ایک کتاب ہے لکھی ہوئی بڑی ہلاکت ہے

اور تم کیا جانو کہ سجدت کیا ہے؟ (8) ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ (9) بڑی ہلاکت ہے

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو

اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (10) جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ (11)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا

اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر وہ شخص حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے جب

اور اُسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ (12) جب

تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی

اُس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے: ”یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“ (13)

كَلَّا بَلْ سَوَّاهُ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

ہرگز نہیں! بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر جو تھوہ کھاتے

ہرگز نہیں! بلکہ اُن کے دلوں پر اُن اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کھاتے تھے۔ (14)

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ

ہرگز نہیں یقیناً وہ اپنے رب سے اس دن ضرور حجاب میں ہوں گے پھر

ہرگز نہیں! یقیناً وہ اُس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے (15) پھر

إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا

یقیناً وہ ضرور داخل ہونے والے ہیں جہنم میں پھر کہا جائے گا یہی ہے

یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ (16) پھر کہا جائے گا: ”یہی ہے

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

وہ جسے تھے تم اس کو جھٹلاتے ہرگز نہیں یقیناً نامہ اعمال

وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔“ (17) ہرگز نہیں! یقیناً

الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

نیک لوگوں کا ضرور اونچے لوگوں کے دفتر (علیین) میں ہوگا اور کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا کیا ہے

نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔ (18) اور تم کیا جانو کہ

عَلِيِّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

علیین ایک کتاب ہے لکھی ہوئی حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب

علیین کیا ہے؟ (19) ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ (20) مقرب فرشتے اُس پر حاضر رہتے ہیں۔ (21)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے

یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ (22) تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ (23)

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقُونَ

تم پہچان لو گے ان کے چہروں میں تازگی نعمت کی ان کو پلائی جائے گی

اُن کے چہروں پر نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے۔ (24) اُن کو

مِنْ رَّحِيقٍ مَّشْهُورٍ ۝۲۵ خَبْءُ مِسْكٍ ۝ وَفِي ذَلِكَ

خالص شراب میں سے مہر بند مہر ہوگی اس پر کستوری کی اور اس میں

مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی۔ (25) جس پر کستوری کی مہر ہوگی اور اس میں

فَلْيَتَنَافَسِ الْتَنَافُسُونَ ۝۲۶ وَمَرَاةٌ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝۲۷

پس لازم ہے کہ مقابلہ کریں رغبت کرنے والے اور آمیزش ہوگی اس میں تسنیم کی

رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں۔ (26) اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ (27)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝۲۸ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

ایک چشمہ ہیں گے جس میں سے مقرب لوگ بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے

ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے۔ (28) وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ ۝۲۹ وَإِذَا مَرُّوا

وہ تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہتے اور جب وہ گزرتے

وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے، ہنسا کرتے تھے۔ (29) اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے

بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ۝۳۰ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ

ان کے پاس سے وہ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے آپس میں اور جب وہ واپس آتے طرف

تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ (30) اور جب وہ

أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَهَيْنَ ۝۳۱ وَإِذَا رَأَوْهُمْ

اپنے گھر والوں کی (تو) واپس آتے مزے لیتے ہوئے اور جب دیکھتے تھے انہیں

اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے۔ (31) اور جب انہیں دیکھتے

قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَصَالَتُونَ ۝۳۲ وَمَا أُرْسِلُوا

کہتے یقیناً یہ لوگ یقیناً بھٹکے ہوئے ہیں حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے

تو کہتے: ”یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔“ (32) حالانکہ وہ

عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿۳۳﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا

ان پر نگہبان نگہبان سوا آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں

ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ (33) سوا آج جو لوگ ایمان لائے ہیں،

مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ ﴿۳۴﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾

کافروں پر وہ ہنستے ہیں تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں

کافروں پر ہنستے ہیں۔ (34) تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ (35)

هَلْ كُفِّرُوا بِنِجْمٍ أَكْثَرُ مِنْ سَاقِيَا يَوْمَ الْحُجَّةِ ﴿۳۶﴾

کیا مل گیا کافروں کو جو وہ تھے کیا کرتے

کیا کافروں کو بدل مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ (36)

ایاتھا ۲۵ ۸۲ سُوْرَةُ الْاِشْتِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ۸۳ رُكُوْعُهُمَا ۱

سورہ اشفاق کی ہے اس میں ایک رکوع اور پچیس آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۱ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا

جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے

جب آسمان پھٹ جائے گا۔ (1) اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا

وَحَقَّتْ ۲ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۳ وَأَلْقَتْ مَا

اور اس کا حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ باہر نکال دے گی جو

اور یہی اُس کا حق ہے۔ (2) اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ (3) اور جو کچھ اُس کے اندر ہے اُسے باہر نکال دے گی



فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَلَّتْ ۝

اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے اور اس کا حق ہے اور خالی ہو جائے گی۔ (4) اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اُس کا حق ہے۔ (5)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ

اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے طرف اپنے رب کی اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت

كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۖ فَمَا مِنْ أَوْتَىٰ كُتِبَ

خوب محنت مشقت کرنا پھر ملنے والا ہے اس سے پس لیکن جس شخص کو دیا گیا نامہ اعمال اس کا پھر تو اُس سے ملنے والا ہے۔ (6) لہذا جس شخص کو اُس کا نامہ اعمال

بَيِّنِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

اس کے دائیں ہاتھ میں توجلد ہی اس سے حساب لیا جائے گا حساب آسان اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ (7) توجلد ہی اُس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ (8)

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ

اور وہ لوٹے گا طرف اپنے گھر والوں کی خوش خوش اور لیکن جس کو اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ (9) مگر جس کو

أَوْتَىٰ كُتِبَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا

دیا گیا اس کا نامہ اعمال پیچھے سے اس کی پیٹھ کے تو عنقریب وہ پکارے گا اُس کا نامہ اعمال اُس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا۔ (10) تو عنقریب

ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ

بڑی ہلاکت کو اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں بلاشبہ وہ تھا اپنے گھر والوں میں وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا۔ (11) اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ (12) بلاشبہ وہ اپنے گھر والوں میں

مَسْرُورًا ۱۳ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورًا ۱۴

خوش یقیناً وہ اس نے سمجھا تھا یہ کہ ہرگز نہیں وہ واپس لوٹے گا

خوش تھا۔ (13) اور اُس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ (14)

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۱۵ فَلَا أُقْسِمُ

کیوں نہیں بے شک اس کا رب تھا اس کو خوب دیکھنے والا پس میں قسم کھاتا

کیوں نہیں اے شک اُس کا رب اُسے خوب دیکھنے والا تھا۔ (15) پس

بِالشَّقِ ۱۶ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۱۷ وَالْقَمَرِ إِذَا

شفق کی اور رات کی قسم اور اس کی جو وہ جمع کرتی ہے اور چاند کی (قسم) جب

میں قسم کھاتا ہوں شفق کی! (16) اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو جمع کرتی ہے (17) اور چاند کی

اَتَّسَقَ ۱۸ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۱۹ فَمَا

وہ پورا ہو جاتا ہے تم لازماً سوار ہو گے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں تو کیا ہے

جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ (18) تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ (19)

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۲۰ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

انہیں نہیں وہ ایمان لاتے اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن

تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ (20) اور جب قرآن اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے

لَا يَسْجُدُونَ ۲۱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۲۲

نہیں وہ سجدہ کرتے بلکہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے جھٹلاتے ہیں

تو وہ سجدہ نہیں کرتے؟ (21) بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ (22)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۲۳ فَبَسَّ رُءُوسَهُمُ

اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں پس آپ خوشخبری دے دو انہیں

اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ (23) چنانچہ انہیں

بِعَذَابِ الْيَمِّ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

دردناک عذاب کی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے

دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ (24) مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،

الصَّلٰحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

نیک ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا

اُن کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ (25)

مکوعہا ۱

۸۵ سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ ۲۷

آیاتھا ۲۲

سُورہ بروج مکی ہے اس میں ایک رکوع اور بائیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۙ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۙ

قسم ہے آسمان کی! برجوں والے اور قسم ہے دن کی! وعدہ دیا گیا ہے

قسم ہے برجوں والے آسمان کی! (1) قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے! (2)

وَشَٰهِدٍ ۙ وَمَشْهُودٍ ۙ قَتْلِ أَصْحَابِ الْأَحْذُودِ ۙ

اور حاضر ہونے والے کی قسم اور حاضر کیے ہوئے کی مارے گئے خندقوں والے

اور حاضر ہونے والے اور حاضر کئے ہوئے کی! (3) مارے گئے خندقوں والے۔ (4)

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۙ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۙ وَهُمْ عَلَىٰ مَا

آگ تھی بہت ایندھن والی جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس پر جو

آگ تھی بہت ایندھن والی۔ (5) جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ (6) اور وہ اس کو

يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودًا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا

وہ کر رہے تھے ساتھ مومنوں کے گواہ تھے اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے سوائے

جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے، گواہ تھے۔ (7) اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا،

أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي

اس کے کہ وہ ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پر سب پر غالب ہر تعریف کے لائق وہ جو

کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ (8)

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اس کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اُس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ

شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

گواہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو

ہر چیز پر گواہ ہے۔ (9) یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا،

وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ

اور مومن عورتوں کو پھر نہ توبہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا

بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے

جلنے کا عذاب ہے۔ (10) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

نیک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں

اُن کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝۱۱ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

یہ کامیابی ہے بہت بڑی بلاشبہ پکڑ تیرے رب کی

یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ (11) بلاشبہ تیرے رب کی پکڑ

لَسَدِيْدٌ ۝۱۲ اِنَّهُ هُوَ يُّبْدِيْ وَيُعِيْدُ ۝۱۳ وَهُوَ

یقیناً بڑی سخت ہے بلاشبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی

یقیناً بڑی سخت ہے۔ (12) بلاشبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ (13) اور وہی

الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝۱۵ فَعَالٌ

بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا ہے کرگزرنے والا ہے

بے حد بخشنے والا ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ (14) عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ (15)

لَمَّا يُرِيْدُ ۝۱۶ هَلْ اَتَكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝۱۷

جس کے لیے وہ چاہتا ہے کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر لشکروں کی

جو چاہتا ہے اس کو کرگزرنے والا ہے۔ (16) کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ (17)

فِرْعَوْنَ وَشَمُوْدَ ۝۱۸ بَلِ الْزِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ سَكْنِيْبٍ ۝۱۹

فرعون کی اور شموڈ کی بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں ہیں

فرعون اور شموڈ کی۔ (18) بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ (19)

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝۲۰ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ

اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے بلکہ وہ قرآن

اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ (20) بلکہ قرآن

مَجِيْدٌ ۝۲۱ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝۲۲

بڑی شان والا ہے لوح میں محفوظ

بڑی شان والا ہے۔ (21) لوح محفوظ میں ہے۔ (22)

رکوعها ۱

۸۲ سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ ۳۶

آیتها ۱۷

سُورَةُ طَارِقِ مَكِّيٌّ هِيَ فِي اسِّ مِثْلِ اِيك رُكُوعٍ اَو سِتْرَهٗ اَيَّاتٍ هِيَ۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۱ وَمَا اَدْرٰكُ مَا

قسم ہے آسمان کی! اور رات کو آنے والے کی! اور کس چیز نے تمہیں معلوم کر دیا کیا ہے

آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی! (1) اور تم کیا جانو کہ

الطَّارِقِ ۲ النُّجْمِ الثَّاقِبِ ۳ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّبَا عَلَیْهَا

رات کو آنے والا تارا ہے چمکتا ہوا نہیں ہر جان مگر اوپر اس کے

رات کو آنے والا کیا ہے؟ (2) چمکتا ہوا تارا ہے۔ (3) مگر ہر جان

حَافِظٌ ۴ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۵

ایک حفاظت کرنے والا ہے چنانچہ چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا

کے اوپر ایک محافظ ہے۔ (4) چنانچہ انسان کو چاہیے وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ (5)

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۶ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ

وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلنے والے وہ نکلتا ہے درمیان سے

وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ (6) جو پیٹھ اور سینے کی

الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۷ اِنَّهٗ عَلٰی رَاجِعِهِ لَقَادِرٌ ۸

پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بلاشبہ وہ اوپر اس کے لوٹانے کے یقیناً قادر ہے

ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ (7) بلاشبہ وہ اُس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ (8)

منزل ۷

يَوْمَ تُبَلِّ السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ

جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام پوشیدہ باتوں کی تونہ (ہوگا) اس کے لیے کوئی قوت  
جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ (9) تو اس کے پاس

وَلَا نَاصِرٌ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ

اور نہ ہی کوئی مددگار قسم ہے آسمان کی! بار بار بارش لانے والے کی اور زمین کی!  
نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ (10) بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم! (11)

ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ

پھٹنے والی یقیناً یہ بلاشبہ کلام ہے ایک فیصلہ کن اور نہیں وہ  
اور پھٹنے والی زمین کی! (12) یقیناً یہ بلاشبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ (13)

بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ

ہنسی مذاق یقیناً وہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں ایک خفیہ تدبیر اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں  
اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ (14) یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں ایک خفیہ تدبیر، (15) اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں

كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا عِ

ایک خفیہ تدبیر تو آپ مہلت دے دیں کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی  
ایک خفیہ تدبیر۔ (16) تو آپ کافروں کو مہلت دیں، مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ (17)

رکوعها ۱

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ ۸

آیاتها ۱۹

سُورَةُ الْأَعْلَى كُنِيَ بِهَا اسْمُهَا فِي الْقُرْآنِ وَرُكُوعُهَا وَآيَاتُهَا كَمَا فِي هَذِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝۱ الَّذِي خَلَقَ

آپ تسبیح کریں نام کی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے وہ جس نے پیدا کیا  
آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ (1) وہ ذات جس نے پیدا کیا

فَسَوَّىٰ ۝۲ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝۳ وَالَّذِي

پھر درست بنایا اور وہ جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی اور وہ جس نے  
پھر درست بنایا۔ (2) اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ (3) اور وہ ذات جس نے

أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝۴ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝۵

نکالا (زمین سے) چارہ تو بنا دیا اس کو کھڑا سیاہ  
زمین سے چارہ نکالا۔ (4) تو اُس کو سیاہ کھڑا بنا دیا۔ (5)

سُنُقِرُكَ ۝۶ فَلَا تَنْسَىٰ ۝۷ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝۸

جلدی ہم تمہیں پڑھادیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ  
جلدی ہم آپ کو پڑھادیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ (6) مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً وہ

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝۹ وَنُيَسِّرُكَ

یقیناً وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو پوشیدہ ہے اور ہم آپ کو سہولت دیں گے  
ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اُس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ (7) اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے

لِلْيُسْرَىٰ ۝۱۰ فَذَكِّرْ ۝۱۱ إِنَّ تَفْعَتِ الذِّكْرِ ۝۱۲ سَيِّدًا كَرِيمًا

آسان (راستے) کے لیے سونہیت کرو اگر فائدہ دیتی ہے نصیحت جلدی وہ نصیحت قبول کرے گا  
سہولت دیں گے۔ (8) سو آپ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ (9) وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا

مَنْ يَخْشَىٰ ۝۱۳ وَيَتَجَبَّبَ ۝۱۴ الْأَشْقَىٰ ۝۱۵ الَّذِي يَصْلَىٰ

جو شخص ڈرتا ہے اور علیحدہ رہے گا اس سے بد بخت وہ جو داخل ہوگا  
جو ڈرتا ہے۔ (10) اور بد بخت اُس سے علیحدہ رہے گا۔ (11) وہ جو بہت



النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۚ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ

آگ میں بہت بڑی پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا

بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ (12) پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ (13)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ

یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے یاد کیا نام

یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ (14) اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا،

رَبِّهِ صَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ

اپنے رب کا پھر اس نے نماز پڑھی بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو

پھر اس نے نماز پڑھی۔ (15) بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ (16)

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ إِنَّ هَذَا

اور آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ (بات)

حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ (17) بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے۔ (18)

لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۗ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۗ

یقیناً صحیفوں میں ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے

ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ (19)

مکوعها ۱

۸۸ سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۸

آیاتها ۲۲

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۸

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے (جو) وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

منزل ۷

هَلْ أَتَتْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُودًا يَوْمَئِذٍ

کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی کئی چہرے اس دن

کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر آئی ہے؟ (1) کئی چہرے اس دن

خَاشِعَةً ② عَامِلَةً نَّاصِبَةً ③ تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً ④

ذلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھک جانے والے داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی

ذلیل ہوں گے۔ (2) محنت کرنے والے تھک جانے والے۔ (3) وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ (4)

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اِنِّيَّةٍ ⑤ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

انہیں پانی پلایا جائے گا چشمے سے کھولتے ہوئے نہ ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا

کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ (5) سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا

اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑦

سوائے سوکھی خاردار جھاڑی کے نہ موٹا کرے گا اور نہ کافی ہوگا بھوک میں

اُن کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ (6) جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ (7)

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً ⑧ لَسْعِيهَا رَاضِيَةً ⑨

کئی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنی کوشش پر خوش ہوں گے

کئی چہرے اُس دن تروتازہ ہوں گے۔ (8) اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ (9)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِاٰغِيَةٍ ⑪ فِيهَا

جنت میں ہوں گے عالی مقام نہ سنیں گے اس میں کوئی لغوبات اس میں

عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ (10) اُس میں وہ کوئی لغوبات نہ سنیں گے۔ (11)

عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا سُرْمًا مَّرْفُوعَةً ⑬ وَاكْوَابٌ

چشمہ ہوگا بننے والا اس میں تخت ہوں گے اونچے اور ساغر

اُس میں بننے والا چشمہ ہوگا۔ (12) اُس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ (13) اور رکھے ہوئے

مَوْضُوعَةٌ ﴿۱۴﴾ وَنَبَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿۱۵﴾ وَزَرَائِبُ مَبْمُوتَةٌ ﴿۱۶﴾

رکھے ہوئے اور گاؤں تکے قطاروں میں لگے ہوئے اور محلی قالین بچھائے ہوئے

ساغر ہوں گے۔ (14) اور گاؤں تکے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ (15) اور محلی قالین بچھائے ہوئے

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾

تو کیا نہیں دہ دیکھتے طرف اونٹوں کی کیسے وہ پیدا کیے گئے

ہوں گے۔ (16) تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ (17)

وَأِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ

اور طرف آسمان کی کیسے وہ بلند کیا گیا اور طرف پہاڑوں کی

اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا؟ (18) اور

كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾

کیسے وہ گاڑے گئے ہیں اور طرف زمین کی کیسے وہ بچھائی گئی ہے

پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے؟ (19) اور زمین کی طرف

فَذَكِّرْ إِنبَاءَ أَنْتَ مُذَكَّرٌ ﴿۲۱﴾ لَسْتَ

پس آپ نصیحت کریں یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں ہرگز نہیں ہو آپ

کہ کیسے وہ بچھائی گئی؟ (20) پس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ (21) آپ

عَلَيْهِمْ بِضَيْطٍ ﴿۲۲﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكُفَّرَ ﴿۲۳﴾

ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا

ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ (22) مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا۔ (23)

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿۲۴﴾ إِنَّ إِلَيْنَا

تو عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب بہت بڑا یقیناً ہماری جانب

تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ (24) یقیناً

إِيَابَهُمْ ۝۱۵ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝۲۶

ان کا لوٹ کر آنا ہے پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے حساب ان کا

انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے۔ (25) پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ (26)

اباھا ۳۰ ۸۹ سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۰ رکو عھا ۱

سورہ فجر کی ہے اس میں تیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳

قسم ہے فجر کی! اور راتوں کی! دس اور جفت کی اور طاق کی

قسم ہے فجر کی! (1) اور دس راتوں کی! (2) اور جفت کی اور طاق کی! (3)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝۴ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ

اور رات کی جب وہ چلتی ہے اس میں بڑی قسم ہے

اور رات کی جب وہ چلتی ہے! (4) یقیناً اس میں

لِيَذِي حَجْرٍ ۝۵ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

یقیناً عقل مند کے لیے کیا نہیں تم نے دیکھا کیا سلوک کیا آپ کے رب نے

عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ (5) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے

بِعَادٍ ۝۶ اِِ اِمَامٍ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝۷ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ

عاد کے ساتھ ارم جو ستونوں والے تھے وہ جو نہیں پیدا کیا گیا

عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ (6) عاد ارم جو ستونوں والے تھے۔ (7) وہ کہ

مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝۸ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ

ان جیسا کوئی شہروں میں اور ثمود وہ لوگ جنہوں نے تراشیں چٹانیں

ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ (8) اور ثمود کے ساتھ

بِالْوَادِ ۝۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝۱۰ الَّذِينَ طَعَنُوا

وادی میں اور فرعون جو میٹھوں والا تھا وہ لوگ جو سرکش ہو گئے

جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشیں۔ (9) اور فرعون کے ساتھ جو میٹھوں والا تھا۔ (10)

فِي الْبِلَادِ ۝۱۱ فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۲ فَصَبَّ

شہروں میں پس زیادہ کیا انہوں نے ان میں فساد تو برسایا

وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے۔ (11) پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ (12) تو

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ۝۱۳ إِنَّ رَبَّكَ

ان پر تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا بلاشبہ رب تمہارا

تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ (13) بلاشبہ تمہارا رب

لِبِائِسِ صَادٍ ۝۱۴ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

یقیناً گھات میں ہے پھر لیکن انسان جب آزماتا ہے اسے

یقیناً گھات میں ہے۔ (14) مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے

رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

رب اس کا پھر اُسے عزت بخشا ہے اور نعمت دیتا ہے اس کو تو وہ کہتا ہے میرے رب نے

پھر اُسے عزت بخشا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ”میرے رب نے

أَكْرَمَنِي ۝۱۵ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ

مجھے عزت بخشی ہے اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے تو وہ تنگ کر دیتا ہے اس پر

مجھے عزت بخشی ہے۔“ (15) اور جب اُسے وہ آزماتا ہے اور اُس پر اس کا

بِرِزْقِهِ ۱۳ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِ ۱۴ كَلَّا بَلْ

رزق اس کا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہرگز نہیں! بلکہ  
رزق تک کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے: ”میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔“ (16) ہرگز نہیں! بلکہ

لَا تَكْرُمُونَ ۱۵ الْيَتِيمَ ۱۶ وَلَا تَحْضُونِ

نہیں تم عزت کرتے یتیم کی اور نہیں تم ایک دوسرے کو ابھارتے  
تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو (17)

عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۱۷ وَتَأْكُلُونَ ۱۸ الثَّرَاثَ ۱۹ أَكَلًا لِّبَا ۱۹

کھلانے پر مسکین کو اور تم کھا جاتے ہو میراث کا سارا مال کھانا سمیٹ کر  
اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ (18) اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ (19)

وَتُحِبُّونَ ۲۰ الْمَالَ ۲۱ حُبًّا ۲۲ حَبًّا ۲۳ كَلَّا إِذَا

اور تم محبت کرتے ہو مال سے محبت رکھنا بہت زیادہ ہرگز نہیں! جب  
اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ (20) ہرگز نہیں! جب

دُكَّتِ ۲۴ الْأَرْضُ ۲۵ دَكَاذًا ۲۶ وَجَاءَ ۲۷ رَبُّكَ ۲۸

ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر اور آئے گا رب تمہارا  
زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ (21) اور تمہارا رب آئے گا

وَالْمَلِكُ ۲۹ صَفَا ۳۰ وَجَاءَ ۳۱ يَوْمَئِذٍ ۳۲ بِجَهَنَّمَ ۳۳

اور فرشتے بھی صف در صف اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو  
اور فرشتے بھی صف در صف آجائیں گے۔ (22) اور اُس دن جہنم کو لایا جائے گا،

يَوْمَئِذٍ ۳۴ يَتَذَكَّرُ ۳۵ الْإِنْسَانُ ۳۶ وَأَلَىٰ ۳۷ لَهُ ۳۸

اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان اور کہاں ہے اس کے لیے  
اُس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اُس کے لیے

الذِّكْرَى ۳۱ يَقُولُ يَلِيَّتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۳۲

نصیحت وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے

نصیحت کہاں؟ (23) وہ کہے گا: "اے کاش! میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔" (24)

فِيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَٔ أَحَدٌ ۱۵ وَلَا

چنانچہ اس دن نہیں عذاب دے گا اس کے عذاب سا کوئی ایک اور نہ ہی

چنانچہ اُس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا۔ (25) اور نہ ہی

يُوثِقُ ۱۶ وَثَاقَٔ أَحَدٌ ۱۷ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۱۸

باندھے گا اس کے باندھنے جیسا کوئی ایک اے جان! اطمینان والی

اُس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ (26) اے اطمینان والی جان! (27)

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۱۹ فَادْخُلِي

لوٹ آؤ طرف اپنے رب کی راضی ہونے والی پسند کی ہوئی چنانچہ شامل ہو جاؤ

اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ! راضی ہونے والی ہو، پسند کی ہوئی ہو۔ (28)

فِي عِبَادِي ۲۰ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۲۱

میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں

چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ (29) اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (30)

رکوعها ۱

۹۰ سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ ۳۵

آیاتها ۲۰

سُورَةُ الْبَلَدِ كَيْسِي هِيَ فِي مِثْلِ آيَاتٍ هِيَ -

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی! اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر کے

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی! (1) اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ (2)

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی بلاشبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو

قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی! (3) بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ (4)

فِي كَبَدٍ ۝ آيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

بڑی مشقت میں کیا وہ خیال کرتا ہے یہ کہ کبھی نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی ایک

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ (5)

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ آيَحْسَبُ أَنْ

وہ کہتا ہے میں نے برباد کر دیا مال ڈھیروں کیا وہ خیال کرتا ہے یہ کہ

وہ کہتا ہے: ”میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔“ (6) کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو

لَمْ يَرَآ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے کیا نہیں ہم نے بنائیں اس کی دو آنکھیں

کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ (7) کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ (8) اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ (9)

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا

اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور بتادے ہم نے اس کو دو راستے تو نہیں

اور ہم نے اس کو دو راستے بتادے ہیں۔ (10) سو وہ دشوار گزار

أَتَقَمَّ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

وہ داخل ہوا دشوار گزار گھاٹی میں اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے دشوار گزار گھاٹی

گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ (11) اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ (12)



فَكَ رَقَبَةً ۱۳ أَوْ اطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةَ ۱۴

چھڑانا کسی گردن کا یا کھانا کھلانا دن میں بھوک والے

کسی گردن کا چھڑانا۔ (13) یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ (14)

يَتِيمًا ذَامِقْرَبَةً ۱۵ أَوْ مَسْكِينًا ذَامْتَرَبَةً ۱۶ ثُمَّ

کسی یتیم کو رشتہ دار یا محتاج کو خاک نشین پھر

کسی رشتہ دار یتیم کو۔ (15) یا خاک نشین محتاج کو۔ (16)

كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

وہ جو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی

پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی

وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۱۷ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۱۸

اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی رحم کی یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں

اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ (17) یہی لوگ دائیں (بازو) والے ہیں۔ (18)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۱۹

اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا وہی بائیں بازو والے ہیں

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں۔ (19)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۲۰

ان پر آگ (ہوگی) بند کی ہوئی

ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ (20)

مکوعھا ۱

۹۱ سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ ۲۶

آیاتھا ۱۵

سورہ شمس کی ہے اس میں پندرہ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالشُّسِ وَصُحْبَهَا ۱ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۱

قمر ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے

قمر ہے سورج اور اُس کی دھوپ کی! (1) اور چاند کی جب وہ اُس کے پیچھے آئے! (2)

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۳ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۳

اور دن جب وہ ظاہر کرے اس کو اور رات جب وہ اسے ڈھانپ دے

اور دن کی جب کہ وہ سورج کو ظاہر کر دے! (3) اور رات کی جب وہ اُسے ڈھانپ دے! (4)

وَالسَّاءِ وَمَا بَنَاهَا ۵ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۵

اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اسے اور زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اسے

اور آسمان کی اور اُس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے! (5) اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا! (6)

وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۷ فَأَلَّهَهَا ۷ فُجُورَهَا

اور نفس کی اور اس کی جس نے درست کیا اسے پھر اس نے اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدی

اور نفس کی اور اُس ذات کی جس نے اُسے درست کیا! (7) پھر اُس کی بدی

وَتَقْوَاهَا ۸ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۸ وَقَدْ

اور اس کا تقویٰ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا اور یقیناً

اور اس کا تقویٰ اُس کے دل میں ڈال دیا۔ (8) یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اُسے پاک کیا۔ (9) اور یقیناً نامراد ہوا

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۱۰ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۱۱

نامراد ہوا وہ جس نے مٹی میں دبا دیا اس کو جھٹلایا ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر

وہ جس نے اُسے مٹی میں دبا دیا۔ (10) ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ (11) جب

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ

جب اٹھا بد بخت ترین آدمی اس کا تو کہا ان کے لیے رسول نے (صالح)  
اُس کا بد بخت ترین آدمی اٹھا۔ (12) تو اللہ کے رسول (صالح) نے اُن سے کہہ دیا تھا

اللَّهُ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ

اللہ تعالیٰ کے اونٹنی اللہ تعالیٰ کی اور اس کی پینے کی باری کا (خیال کرو) تو انہوں نے جھٹلادیا سے  
اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اُس کی پینے کی باری کا خیال کرو۔ (13) پس انہوں نے جھٹلادیا سے

فَعَقَرُوها ۝ فَادْمَدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ

پس انہوں نے اس کی ٹونچیں کاٹ دیں تو پس کر ہلاک کر دیا ان کو ان کے رب نے  
پس اُس کی ٹونچیں کاٹ دیں۔ تو اُن کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا

بِذُنُوبِهِمْ ۝ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

ان کے گناہ کے سبب پھر اس کو برابر کر دیا اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے  
پھر اُس (بستی) کو برابر کر دیا۔ (14) اور وہ اس (جہاں) کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ (15)

۲۱

۹۲ سُورَةُ الْاَيْلِ مَكِّيَّةٌ ۹

۲۱

سُورَةُ الْاَيْلِ مَكِّيَّةٌ ۹

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَ الْاَيْلِ إِذَا يَعْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے  
قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے! (1) اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے! (2)

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ

اور اس (ذات) کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ یقیناً کوششیں تمہاری

اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا! (3) یقیناً تمہاری کوششیں

لَسْتُمْ ۖ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ

بلاشبہ الگ الگ ہیں پس رہا وہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا اور سچ مانا

بلاشبہ الگ الگ ہیں۔ (4) چنانچہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا۔ (5) اور بھلائی کو

بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ

بھلائی کو تو جلد ہی اس کو سہولت دیں گے آسان راستے کے لیے اور لیکن وہ جس نے

سچ مانا۔ (6) تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ (7) اور لیکن جس نے

بِخَلٍ وَاسْتَعْتَبَ ۖ وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَيُيَسِّرُهُ

بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور جھٹلایا اور بھلائی کو تو جلد ہی ہم اس کو سہولت دیں گے

بخل کیا اور بے پرواہ ہوا۔ (8) اور بھلائی کو جھٹلایا۔ (9) تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کے لیے

لِلْعُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۖ

مشکل راستے کے لیے اور نہ کام آئے گا اس کے مال اس کا جب وہ (جہنم میں) گرے گا

سہولت دیں گے۔ (10) اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ (جہنم میں) گرے گا۔ (11)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ

بلاشبہ ہمارے ذمے ہے یقیناً ہدایت دینا اور یقیناً ہمارے اختیار میں ہے آخرت

بلاشبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ (12) اور یقیناً آخرت اور

وَالْأُولَىٰ ۖ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا

اور دنیا پس میں نے ڈر دیا تمہیں آگ سے جو شعلے مارتی ہے نہیں داخل ہوگا اس میں

دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ (13) پس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈر دیا ہے۔ (14) جس میں

إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا

سوائے بڑے بد بخت کے وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا اور عنقریب اس سے دور رکھا جائے گا  
اُس بڑے بد بخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ (15) جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ (16) اور عنقریب بڑا پرہیزگار

الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا

بڑا پرہیزگار وہ جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو جائے اور نہیں  
اُس سے دُور ہی رکھا جائے گا۔ (17) جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ (18) اور اُس پر

لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ

کسی ایک کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جائے مگر تلاش میں  
کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ (19) مگر صرف اپنے رب کی

وَجْهِ رَبِّهِ ۝ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

چہرہ اپنے رب کا سب سے بلند ہے اور یقیناً بہت جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا  
رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے۔ (20) اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ (21)

اب آیتھا ۱۱ ۹۳ سُورَةُ الضَّحَىٰ مَكِّيَّةٌ ۱۱ رُكُوعَهَا ۱

سُورَةُ ضَحَىٰ مَكِّيَّةٌ ۱۱ رُكُوعَهَا ۱

سُورَةُ الضَّحَىٰ مَكِّيَّةٌ ۱۱ رُكُوعَهَا ۱

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ

تم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے نہ چھوڑا آپ کو  
تم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی! (1) اور رات کی جب وہ چھا جائے! (2) آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے

رَبُّكَ وَمَا قَلِي ۝ وَلَا خَيْرَ لَكَ

آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے

اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ (3) اور یقیناً آپ کے لیے آخرت

مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝

دنیا سے اور جلد ہی دے گا آپ کو رب آپ کا تو آپ خوش ہو جاؤ گے

دنیا سے بہت بہتر ہے۔ (4) اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ (5)

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ وَوَجَدَكَ

کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم پس اس نے ٹھکانہ دیا اور اس نے پایا آپ کو

کیا اُس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا۔ (6) اور اس نے آپ کو

صَالًا فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝

بے خبر تو اس نے ہدایت دی اور اس نے پایا آپ کو مال سے محروم تو اس نے مال دار کر دیا

بے خبر پایا، تو ہدایت دی؟ (7) اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مال دار کر دیا؟ (8) چنانچہ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

پس لیکن یتیم پس نہ سختی کرو اور لیکن سائل تو مت تم جھڑکو

تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ (9) اور سائل کو مت جھڑکو۔ (10)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اور لیکن اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو

اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو۔ (11)

مکوعھا ۱

۹۲ سُورَةُ النَّاشِرَةِ مَكِّيَّةٌ ۱۲

ایاتھا ۸

سورہ الم نشرح کی ہے اس میں آٹھ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ

کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا اور اتار دیا ہم نے آپ سے  
کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ (1) اور ہم نے آپ پر سے

وَزِدَّاكَ ﴿۲﴾ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿۲﴾ وَرَافَعْنَا

بوجھ آپ کا وہ جس نے توڑ دی تھی کمر آپ کی اور بلند کر دیا ہم نے

آپ کا بوجھ اتار دیا۔ (2) جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ (3) اور ہم نے

لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۳﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۴﴾

آپ کے لیے آپ کے ذکر کو پس یقیناً ساتھ مشکل کے آسانی ہے

آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ (4) پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (5)

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿۵﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ

یقیناً ساتھ مشکل کے آسانی ہے توجہ آپ فارغ ہو جائیں

یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (6) توجہ آپ فارغ ہو جائیں

فَاَنْصَبْ ﴿۶﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿۷﴾

تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کریں

تو محنت کریں۔ (7) اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔ (8)

مکوعھا ۱

۹۵ سُوْرَةُ التِّیْنِ مَكِّيَّةٌ ۲۸

ایاتھا ۸

سورہ تین کی ہے اس میں آٹھ آیات ہیں۔

منزل ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

وَالتِّیْنِ ۝ وَالرَّیْطُوْنِ ۝ وَطُوْرِ سِیْنِیْنِ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر کی

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی! (1) اور طور سینا کی! (2)

الْاَمِیْنِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝

پُر اَمِنِ بلاشبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں

اور اس پُر اَمِنِ شہر کی قسم! (3) بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ (4)

ثُمَّ رَادَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝ اِلَّا الْاَزِیْنَ

پھر لوٹا کر دیا ہم نے اس کو سب سے نیچا سے نیچوں سے مگر وہ لوگ جو

پھر ہم نے اُس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ (5) مگر وہ لوگ جو

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

ایمان لائے جنہوں نے عمل کئے نیک تو ان کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا

ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ (6)

فَا یَكْذِبْکَ بَعْدُ بِالرِّیْنِ ۝ اَلِیْسَ

پس کونسی چیز تجھے جھٹلانے پر (آمادہ کرتی ہے) اس کے بعد جزا کے بارے میں کیا نہیں

پس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ (7) کیا

اللّٰهُ بِاَحْکَمِ الْاَحْکَمِیْنَ ۝

اللہ تعالیٰ بڑا حاکم سب حاکموں سے

اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ (8)



رکوعها ۱

۹۶ سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ ۱

آیتها ۱۹

سورہ علق کی ہے اس میں انیس آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱ خَلَقَ

آپ پڑھیں ساتھ نام کے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا

آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ (1) اُس نے انسان کو

الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۳

انسان کو خون کے لوتھڑے سے آپ پڑھیں اور رب تمہارا سب سے زیادہ کریم ہے

خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ (2) آپ پڑھیں اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ (3)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۵

وہ ذات جس نے سکھایا قلم سے اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا

وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا۔ (4) اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ (5)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۶ أَنْ رَأَاهُ

ہرگز نہیں بلاشبہ انسان یقیناً سرکش ہو جاتا ہے یہ کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو

ہرگز نہیں! بلاشبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ (6) کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے

اسْتَعْيَبَ ۷ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۸ أَرَأَيْتَ

کہ مستغنی ہو گیا یقیناً طرف تیرے رب کی واپسی ہے کیا دیکھتا ہے

کہ وہ مستغنی ہو گیا۔ (7) یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ (8) کیا تم نے

منزل ۷

الَّذِي يَهْلِي ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۗ أَمَأَيْتَ

اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے کیا آپ نے دیکھا  
اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ (9) ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ (10) کیا آپ نے دیکھا

إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۗ

اگر وہ ہو اوپر ہدایت کے یا حکم دیتا ہو ڈر کر رہنے کا  
اگر وہ ہدایت پر ہو؟ (11) تقویٰ کا حکم دیتا ہو۔ (12)

أَمَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۗ

کیا دیکھا تم نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا کیا نہیں اس نے جانا  
کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ (13) کیا اُس نے نہیں جانا

بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۗ

کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں! یقیناً اگر وہ باز نہ آیا  
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ (14) ہرگز نہیں! یقیناً اگر وہ باز نہ آیا

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۗ

لازمہم کھینچیں گے پیشانی کے بالوں سے پیشانی کے بالوں سے جو جھوٹی خطا کا رہے  
تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازمہم کھینچیں گے۔ (15) جو جھوٹی، خطا کار پیشانی ہے۔ (16)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۗ

پس لازم ہے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو جلد ہی ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو ہرگز نہیں  
پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ (17) جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ (18) ہرگز نہیں،

لَا تُطْعَهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۗ

نہ آپ بات مانو اس کی اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ

آپ اُس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ (19)



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

نہیں تھے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے

اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱

اور مشرکین باز آنے والے یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل

وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے۔ (1)

رَأْسُوۡلٍ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝۲

ایک رسول اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو پڑھ کر سنائے صحیفے پاک

اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ (2)

فِيهَا كُتِبَ قَبْلُهَا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

جن میں تحریریں ہوں مضبوط احکام اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ

جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں۔ (3) اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے

اُوْتُوۡا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

جنہیں دی گئی کتاب مگر بعد اس کے جو آئی ان کے پاس

مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی۔ (4)

الْبَيِّنَةُ ۝۳ وَمَا اُمِرُوۡا اِلَّا لِيَعْبُدُوۡا اللّٰهَ

واضح دلیل اور نہیں انہیں حکم دیا گیا سوائے کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی

اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُقَّاءٌ وَيُقِيمُوا

خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے دین کو ایک طرف ہونے والے اور قائم کریں  
دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور یہی ہے دین مضبوط  
اور زکوٰۃ دیں اور یہی مضبوط دین ہے۔ (5) یقیناً

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین سے  
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا

فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ

آگ میں ہوں گے جہنم کی ہمیشہ رہنے والے اس میں یہی لوگ وہی بدترین ہیں  
وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی

الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مخلوقات میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک  
تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ (6) یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،

أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ

یہی لوگ وہی بہترین لوگ ہیں مخلوقات میں ان کی جزا پاس  
وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ (7) ان کی جزا

رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ان کے رب کے باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں  
ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،

خُلِدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے

وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا

وَمَرْضًا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝۸

اور وہ راضی ہو گئے اس سے یہ اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے

اور وہ اُس سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ (8)

مکوعہ ۱

۹۹ سُورَةُ الزَّلْزَلِ مَدَنِيَّةٌ ۹۳

آیاتھا ۸

سُورَةُ الزَّلْزَلِ مَدَنِيَّةٌ هِيَ فِيهَا آيَاتٌ ثَمَنَ عَشْرًا

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۱ وَأَخْرَجَتِ

جب پوری شدت سے ہلادی جائے گی زمین اس کا سخت ہلایا جانا اور باہر نکال دے گی

جب زمین پوری شدت سے ہلادی جائے گی اس کا سخت ہلایا جانا۔ (1)

الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۳

زمین اپنے سارے بوجھ اور کہے گا انسان کیا ہوا ہے اس کو

اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ (2) اور انسان کہے گا: ”اُس کو کیا ہوا؟“ (3)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝۴ بِأَنَّ رَبَّكَ

اس دن وہ بیان کرے گی خبریں اپنی اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے

اُس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ (4) اس لیے کہ آپ کے رب نے

أَوْحَىٰ لَهَا ۖ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا ۗ

وحی کی ہوگی اس کے لیے اس دن پلٹیں گے لوگ الگ الگ

اُسے وحی کی ہوگی۔ (5) جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

تاکہ ان کو دکھائے جائیں اعمال ان کے تو جو شخص کرے گا وزن کے برابر

تاکہ اُن کے اعمال اُن کو دکھائے جائیں۔ (6) تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

ذرے کے نیکی وہ دیکھے لے گا اس کو اور جو کرے گا وزن کے برابر

وہ اُس کو دیکھے لے گا۔ (7) اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

ذرے کے بدی وہ دیکھے لے گا اس کو

وہ اُس کو دیکھے لے گا۔ (8)

مکوعھا ۱

۱۰۰ سُورَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ ۱۲

ایاتھا ۱۱

سورہ عادیات مکی ہے اور اس میں گیارہ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا ۗ فَأَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۗ

قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے پھر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی سم مار کر

ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم! (1) پھر جو سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی۔ (2)





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ

کھٹکھٹانے والی کیا ہے کھٹکھٹانے والی اور کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا

کھٹکھٹانے والی۔ (1) کیا ہے (وہ) کھٹکھٹانے والی؟ (2) اور تم کیا جانو

مَا الْقَارِعَةُ ۳ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

کیا ہے کھٹکھٹانے والی جس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح

کہ کیا ہے (وہ) کھٹکھٹانے والی؟ (3) جس دن لوگ

الْبُتُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ السَّنْفُوشِ ۵

بکھرے ہوئے اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین اون کی طرح دھکی ہوئی

بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ (4) اور پہاڑ دھکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ (5)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

تو لیکن جس شخص کے بھاری ہوں گے پلڑے اس کے تو وہ زندگی میں ہوگا

تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ (6) وہ پسندیدہ زندگی

رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمَةٌ

پسندیدہ اور لیکن جس شخص کے ہلکے ہوں گے پلڑے اس کے تو ٹھکانہ اس کا

میں ہوگا۔ (7) اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ (8) تو اس کا ٹھکانہ

هَٰوِيَةٍ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

گہری کھائی ہوگا اور کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا کیا ہے وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی

گہری کھائی ہوگا۔ (9) اور تم کیا جانو کیا ہے وہ؟ (10) وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ (11)

مکوعها ۱

۱۰۲ السُّورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۶

آياتها ۸

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ فِي اَسْمَائِهَا اَيَّاتٌ هِيَ -

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

اَلْهُمُّ ۱ التَّكْوِيْرُ ۱ حَتّٰی زُرْتُمْ

غافل کر دیا ہے تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے یہاں تک کہ تم نے جا دیکھے

ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ (1) یہاں تک کہ تم نے

الْمَقَابِرَ ۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۲ ثُمَّ كَلَّا

قبرستان ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے پھر ہرگز نہیں

قبرستان جا دیکھے۔ (2) ہرگز نہیں! جلد ہی تم جان لو گے۔ (3) پھر ہرگز نہیں!

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۳ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ

جلد ہی تم جان لو گے ہرگز نہیں! کاش تم جان لیتے علم

جلد ہی تم جان لو گے۔ (4) ہرگز نہیں! کاش تم

الْيَقِيْنَ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ

یقینی یقیناً تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو پھر یقیناً تم ضرور اس کو دیکھ لو گے آنکھ سے

یقینی علم جان لیتے۔ (5) یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ (6) یقیناً پھر تم ضرور اس کو

الْيَقِيْنَ ۷ ثُمَّ لَسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۸

یقین کی پھر یقیناً تم لازماً پوچھے جاؤ گے اُس دن نعمتوں کے بارے میں

یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ (7) پھر یقیناً اُس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ (8)

منزل ۷

رکوعها ۱

۱۰۳ سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۳

آیاتها ۳

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ وَأَسْرَأُ فِي مِثْلِهَا آيَاتُهَا ثَلَاثَةٌ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورًا ﴿۲﴾ إِلَّا

قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے

زمانے کی قسم! (۱) بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ (۲)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں

وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ﴿۳﴾ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴿۴﴾

اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی

اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ (۳)

رکوعها ۱

۱۰۳ سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ ۳۲

آیاتها ۹

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ هِيَ وَأَسْرَأُ فِي مِثْلِهَا آيَاتُهَا تِسْعٌ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱ الَّذِي

بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے کے لیے بہت عیب لگانے والے کے لیے وہ جس نے بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لئے۔ (1) وہ جس نے

جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ

جمع کیا مال اور اس نے گن گن کر رکھا اسے وہ سمجھتا ہے یقیناً مال اس کا مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا۔ (2) وہ سمجھتا ہے یقیناً اُس کا مال ہمیشہ اُس کو زندہ رکھے گا۔ (3)

أَخْلَدَهُ ۝۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَّةِ ۝۴

ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا ہرگز نہیں! وہ ضرور پھینک دیا جائے گا توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ہرگز نہیں! وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ (4) اور کس چیز نے تمہیں خبر دی

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَّةُ ۝۵ نَامُ اللَّهِ

اور کس چیز نے خبر دی تمہیں کیا ہے (وہ) توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی آگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ (وہ) توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ (5) اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ (6) وہ جو

السُّوقِدَةُ ۝۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۝۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ

بھڑکائی ہوئی وہ جو جھاکتی ہے دلوں تک یقیناً وہ اوپر ان کے دلوں تک جھاکتی ہے۔ (7) یقیناً وہ اُن پر بند کر دی جائے گی۔ (8)

مُؤَصَّدَةٌ ۝۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝۹

بند کر دی جائے گی ستونوں میں اونچے اونچے اونچے اونچے ستونوں میں۔ (9)

مکوعھا ۱

۱۰۵- السُّورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ ۱۹

ایاتھا ۵

سورہ فیل کی ہے اس میں پانچ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿۱﴾

کیا نہیں آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (1)

أَلَمْ يَجْعَلْ يَدَهُمُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿۲﴾ وَأَرْسَلَ

کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی خفیہ تدبیر کو بے کار اور اس نے بھیج دیے

کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بے کار نہیں کر دیا؟ (2)

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايَلٰٓءٍ ﴿۳﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ

ان سب پر پرندے غول کے غول وہ پھینک رہے تھے ان پر کنکریاں

اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے۔ (3) جو ان پر پتھر باری مٹی کی

مِّنْ سَجِيلٍ ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعْصَفٍ مَّا كُولٍ ﴿۵﴾

کی ہوئی مٹی کی تو اس نے کر دیا ان کو بھوسے جیسا کھائے ہوئے

کنکریاں پھینک رہے تھے۔ (4) تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ (5)

مکوعھا ۱

۱۰۶ سُورَةُ قُرَيْشٍ مَّكِّيَّةٌ ۲۹

ایاتھا ۴

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَّكِّيَّةٌ ۲۹

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَّكِّيَّةٌ ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

لَا يَلْفُ الْفَهْمُ قُرَيْشٍ ۱ راحلة

دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے قریش کے ان کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے سفر کی قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ (1) اُن کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی

السَّاءِ وَالصَّيْفِ ۲ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳

گرمی کے اور سردی کے تو ان پر لازم ہے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ (2) تو اُن پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ (3)

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ ۴ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۵

وہ جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور اُن کو خوف سے امن دیا۔ (4)

مکوعھا ا

سورۃ الماعون مکیہ ۱۰

ایاتھا <

سورہ ماعون مکی ہے اس میں سات آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذِّبُ بِالْإِذْنِ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي

کیا دیکھتا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو پھر وہی ہے وہ جو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ (1) پھر وہی ہے جو

يَدْعُ الْيَتِيمَ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۳ فَوَيْلٌ

دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں وہ ترغیب دلاتا کھلانے کی مسکین کو پس بڑی ہلاکت ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (2) اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ (3) پس بڑی ہلاکت ہے

لِّلْمُصَلِّينَ ۝۲ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝۱

نمازیوں کے لیے وہ لوگ جو وہ اپنی نماز سے غافل ہیں

ان نمازیوں کے لیے۔ (4) جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ (5)

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝۱ وَيَسْعُونَ ۝۲ الْبَاعُونَ ۝۳

وہ لوگ جو وہ ریا کاری کرتے ہیں اور نہیں دیتے عام برتنے کی چیزیں بھی

جو ریا کاری کرتے ہیں۔ (6) اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ (7)

اساتھا ۳ ﴿سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ ۱۵﴾ رکو عھا ۱

سورہ کوثر کی ہے اس میں تین آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

یقیناً ہم نے عطا کر دی ہے آپ کو کوثر پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے

یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ (1) پس آپ اپنے رب کے لیے

وَأَنْحَرْ ۝۲ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝۳

اور قربانی کریں یقیناً دشمن تمہارا وہی لاولد ہے

نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ (2) یقیناً تمہارا دشمن ہی لاولد ہے۔ (3)

اساتھا ۶ ﴿سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ ۱۸﴾ رکو عھا ۱

سورہ کافرون کی ہے اس میں چھ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا ہے نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝۱ لَا أَعْبُدُ مَا

آپ کہہ دیں اے کافرو! آپ نہیں میں عبادت کرتا جن کی

آپ کہہ دیں کہ اے کافرو! (1) میں اُن کی عبادت نہیں کرتا جن کی

تَعْبُدُونَ ۝۲ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۳

تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں

تم عبادت کرتے ہو۔ (2) اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ (3)

وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمُ ۝۴ وَلَا

اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے اور نہ

اور نہ میں اُن کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ (4) اور نہ

أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ

تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے

تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ (5) تمہارے لیے

دِينِكُمْ وَ لِى دِينِ ۝۶

تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین

تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ (6)

رکوعها ۱

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۲

آیاتها ۳

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۲

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۲

سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۲



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿۱﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب آجائے مدد اللہ تعالیٰ کی اور فتح اور آپ دیکھیں لوگ

جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آجائے۔ (1) اور آپ دیکھیں

يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَنْوَاجًا ﴿۱﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

داخل ہورے ہیں دین میں اللہ تعالیٰ کے فوج در فوج تو آپ تسبیح کیجیے ساتھ حمد کے

کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہورے ہیں۔ (2) تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۲﴾

اپنے رب کی اور اس سے بخشش مانگیے یقیناً وہ (ہمیشہ سے) ہے بہت توبہ قبول کرنے والا

تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

مرکوعہ ۱

سُوْرَةُ اللّٰهِ مَكِّيَّةٌ ۙ

ایاتھا ۵

سُورہ لہب کی ہے اس میں پانچ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

تَبَّتْ يَدَاْ اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿۱﴾ مَا اَغْنٰی

ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا نہ کام آیا

ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ (1)

عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا

اس سے مال اس کا اور (نہ) جو اس نے کمایا جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں

اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا اُس کے کسی کام نہ آیا۔ (2) وہ جلد ہی

ذَاتَ لَهَبٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۗ

شعلے والی اور بیوی اس کی ڈھونے والی لکڑیاں

شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ (3) اور اُس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ (4)

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ

اس کی گردن میں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی

اُس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ (5)

مکوعہا ۱

۱۱۲ سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۲۲

ایاتھا ۴

سُورَةُ اِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۲۲

سُورَةُ اِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۲۲

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ ۝۳

آپ کہہ دیجیے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس نے (کسی کو) جنا

آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ (1) اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ (2) نہ اُس نے کسی کو جنا

وَلَمْ يُولَدْ ۝۴ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۵

اور نہ وہ (کسی سے) جنا گیا اور نہ (کبھی) ہے اس کے برابر کوئی ایک

نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ (3) اور نہ کبھی کوئی ایک اُس کے برابر کا ہے۔ (4)

مکوعہا ۱

۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مِائَةً ۲۰

آیتها ۵

سُورَةُ الْفَلَقِ مِائَةً ۲۰  
سورہ فلق کی ہے اس میں پانچ آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۱ مِنْ شَرِّ مَا

آپ کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے شر سے اس چیز کے جو  
آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ (۱) اُس کے شر سے

خَلَقَ ۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۲ وَمِنْ شَرِّ

اس نے پیدا کی اور شر سے تاریکی کے جب کہ وہ چھا جائے اور شر سے  
جو اُس نے پیدا کی۔ (۲) اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ (۳)

النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۳ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۴

پھونک مارنے والیوں کے گرہ میں اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے  
اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ (۴) اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ (۵)

مکوعہا ۱

۱۱۴ سُورَةُ النَّاسِ مِائَةً ۲۱

آیتها ۲

سُورَةُ النَّاسِ مِائَةً ۲۱  
سورہ ناس کی ہے اس میں چھ آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ساتھ نام اللہ کے وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ

آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں رب کی انسانوں کے بادشاہ کی

آپ کہہ دیجیے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ (1) انسانوں کے بادشاہ کی۔ (2)

النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝

انسانوں کے معبود کی انسانوں کے شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے

انسانوں کے معبود کی۔ (3) وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے۔ (4)

الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

ہٹ ہٹ کر آنے والے کے وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ (5)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

جنوں میں سے اور انسانوں میں سے

جنوں اور انسانوں میں سے۔ (6)